



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 9/12/2022

گورنر HOCHUL نے کام کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پلانے کو سازگار بنانے کے لیے کو وسعت دینے کے قانونی مسودے پر دستخط کیے

قانونی مسودہ (S.4844-B/A.1236-A) درکار کرتا ہے کہ نیو یارک میں تمام آجر چھاتی کا دودھ اخذ کرنے کے لیے نجی ماحول والی باسہولت جگہیں فراہم کریں جہاں نشستیں، نلکے کے پانی تک رسائی اور بجلی اور کام کرنے کے لیے جگہ موجود ہوں۔

یہ آجروں سے یہ بھی درکار کرتا ہے کہ وہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پلانے کے لیے ملازمین کے حقوق سے متعلق ایک تحریر شدہ پالیسی مرتب اور لاگو کریں

گورنر Kathy Hochul نے آج کام کی جگہ پر دودھ پلانے کو سازگار بنانے کے لیے کو وسعت دینے کے قانونی مسودے پر دستخط کیے۔ قانونی مسودہ (S.4844-B/A.1236-A) نیو یارک کے تمام آجروں سے یہ یقینی بنانا درکار کرتا ہے کہ وہ چھاتی کا دودھ اخذ کرنے والی جگہوں پر نشستوں، نلکے کے پانی تک رسائی اور بجلی اور کام کرنے کی جگہوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ موزوں اور نجی ماحول فراہم کریں۔ یہ آجروں سے یہ بھی درکار کرے گا کہ وہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پلانے کے لیے ملازمین کے حقوق سے متعلق ایک تحریر شدہ پالیسی مرتب اور لاگو کریں۔ نیا قانون یقینی بنائے گا کہ ریاست بھر میں تمام ملازمین کو وہی بنیادی سازگار سہولیات فراہم کی جائیں جو کہ فی الحال سرکاری ملازمین کو ملتی ہیں۔

"دودھ پلانے والی ہر ماں اس چیز کی مستحق ہیں کہ ان کو کام کرنے کی جگہ پر دودھ اخذ کرنے کے واسطے ایک محفوظ، صاف ستھری اور باسہولت جگہ تک رسائی حاصل ہو،" گورنر Hochul نے کہا۔ "مالکان سے معیاری سازگار سہولیات فراہم کرنا درکار کر کے، یہ قانون ملازمین کے لیے مددگار ہوگا کہ ان کو چھاتی سے دودھ پلانے کے دوران آرام دہ اور باعزت احساس پائیں۔"

قانونی مسودہ (S.4844-B/A.1236-A) نیو یارک میں تمام آجروں سے درکار کرتا ہے کہ وہ کام کی جگہ پر باسہولت، نجی ماحول فراہم کرنے والی دودھ اخذ کرنے کی جگہیں فراہم کریں جن میں نشستیں، نلکے کے پانی تک رسائی اور بجلی اور کام کرنے کی جگہ موجود ہو۔ فی الحال، آجروں کے لیے لازم ہے کہ وہ ملازمین کو چھاتی کا دودھ اخذ کرنے کے لیے معقول وقفے دیں اور اس مقصد کے لیے ایک جگہ فراہم کرنے کے لیے موزوں اقدامات کریں، لیکن یہ معیار، سرکاری ملازمین کے لیے لاگو شرائط کے مقابلے میں کمتر ہے۔ یہ قانون، مالکان سے چھاتی کا دودھ پلانے کے لیے سازگار سہولیات کو وسعت دینا درکار کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ریاست بھر میں، کام کرنے کی تمام جگہوں پر دودھ اخذ کرنے کے لیے باحفاظت، صاف ستھری جگہیں موجود ہوں۔

یہ نیا قانون آجروں سے یہ بھی درکار کرے گا کہ کام کرنے کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پلانے والے ملازمین کے حقوق سے متعلق ریاست نیویارک کے محکمہ محنت کی مرتب کردہ پالیسی اختیار کریں۔ آجروں کے لیے لازم ہے کہ ہر ملازم کو، ملازمت پہ رکھتے ہوئے اور بعد میں ہر سال، علاوہ ازیں، جب ملازمین بچے کی پیدائش کے بعد کام پر واپس آئیں، یہ تحریر شدہ پالیسی فراہم کریں۔

ریاستی سینیٹر **Alessandra Biaggi** نے کہا، "دودھ پلانے والی مائیں قطع نظر اس کے کہ وہ کہاں کام کرتی ہیں، ایک ہی طرح کی نگہداشت صحت اور سازگار سہولیات کی مستحق ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ گورنر Hochul نے S4844B پہ دستخط کر دیے ہیں، یہ میرا بل ہے جو مالکان سے یہ درکار کرنے کے لیے ہے کہ وہ ملازمین کو دودھ پلانے کے لیے نجی ماحول والے کمروں تک رسائی دیں۔ کسی کو بھی کبھی بھی اپنے بچے کے لیے خوراک اور اپنی نوکری میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں ہونا چاہیے؛ اور ہمیں یہ یقینی بنانا جاری رکھنا ہے کہ نیو یارک بھر میں کام کرنے کی جگہیں سب کے لیے قابل رسائی اور برابری کی سطح پر ہیں۔"

رکن اسمبلی **Amy Paulin** نے کہا، "چھاتی کے دودھ کے فوائد ہر طرف تسلیم شدہ ہیں اور جو خواتین اپنا دودھ اخذ کرنا چاہیں ان کی اس طرح حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ ان کی کام کرنے کی جگہ پر ایک ایسی جگہ ہو جہاں نجی ماحول ہو، صاف ستھری، محفوظ ہو اور پانی اور باہر نکلنے کے راستے تک رسائی موجود ہو۔ واضح ہے کہ آجروں کو ایسی تحریر شدہ پالیسیز نافذ کرنی چاہییں جو کہ ایک خاتون کے لیے کام کی جگہ پر چھاتی سے دودھ پلانے کے قابل ہونے میں مددگار ہوں اور خواتین کو ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہونے دیں جہاں ان کو چھاتی سے دودھ پلانے کے حق اور موزوں سہولیات کا تقاضا کرنا پڑے۔ میں، کام کرنے والی ماؤں کا ساتھ دینے والا یہ قدم اٹھانے پر گورنر Hochul کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418